

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

غیر اللہ کو سرپرست بنانے والوں کی مثال

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (العنكبوت: 41-43)

جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنا لیا اور بے شک گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کہ وہ علم رکھتے ہوتے بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جسے بھی وہ اس کے سوا پکارتے ہیں اور وہ بہت زبردست، خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علم رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔

مثال سے حاصل ہونے والے فوائد

انسان کمزور ہے

اللہ ہی حقیقی سرپرست ہے

ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرنا

کمزور انسان ہمیشہ طاقت ور کا محتاج ہوتا ہے

- جس پر وہ بھروسا کرسکے،
- جو اس کی حفاظت کرسکے،
- جو اس کا دفاع کرسکے،
- جس سے وہ کچھ مانگ کرسکے،
- جس سے وہ پناہ طلب کرسکے،
- جس سے وہ فریاد کرسکے
- اور جس کو وہ پکارسکے۔

✓ کرنے کے کام

✓ اللہ کے سوا تمام سہارے کمزور ہیں اس لیے ان کی بجائے اللہ سے تعلق جوڑیں۔

✓ اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کریں۔

✓ ہر مشکل، پریشانی میں سب سے پہلے اللہ کے آگے گڑگڑائیں۔

✓ اللہ پر بھروسا کریں

اللہ پر توکل کے فائدے

اللہ کی محبت ملنا

اللہ کا کافی بوجانا

شیطان سے حفاظت/توکل کرنے والوں پر شیطان کا زور نہ چلنا

وہم/بدشگونی کا زائل بوجانا

جادو، حسد اور نظر بد سے حفاظت ہونا

روز کا روز رزق ملنا

رزق میں اضافہ کا باعث

اللہ کا بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرنا

اللہ پر بھروسا کرنے والوں کا بڑا اجر

بغیر حساب جنت میں داخلہ

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي
وَنصِيرِي بِكَ أَحْوَلُ وَبِكَ
أَصْوَلُ وَبِكَ أَقَاتِلُ.